

ELECTRONIC DIVIDEND MANDATE FORM

We wish to inform you that in accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to shareholders only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholders.

In order to receive your dividends directly into your bank account, please complete the particulars as mentioned below and return this letter duly signed along with a copy of your CNIC to the share registrar of the Company CDC Share Registrar Service Ltd., CDC House 99-B, Block B, SMCHS, Shahrah-e-Faisal Karachi.

CDC shareholders are requested to submit their dividend mandate and CNIC directly to their broker (participant)/CDC on the given below format.

I hereby communicate to receive my future dividends directly in my bank account as detailed below:

Name of shareholder:

Folio / CDC account no: _____ of UDL International Limited.

Address of shareholder: _____

Contact number of shareholder: _____

Email address:

Title of account: _____

[illegible]

Account no: _____

Branch code: _____

Name of bank: _____

Bank branch & full mailing address: _____

CNIC no. (copy attached):

NTN (in case of corporate entity): _____

It is stated that the above particulars given by me are correct and to the best of my knowledge; I shall keep the Company informed in case of any changes in the said particulars in future.

Shareholder's Signature

Note:

Please provide complete IBAN, after checking with your concerned branch to enable electronic credit directly to your bank account. Joint account holders shall specify complete title of account including name of shareholder.

The payment of cash dividend will be processed to the above account only. Your company is entitled to rely on the account number as per your instructions. The company shall not be responsible for any loss, damage, liability or claim arising, directly or indirectly, from any error, delay, or failure in performance of any of its obligations hereunder which is caused by incorrect payment instructions and / or due to any event beyond the control of the company.

The shareholder who hold shares in physical form are requested to submit the required dividend mandate form after duly filled in to the share registrar concerned. The shareholders who hold shares in Central Depository Company are requested to submit the required dividend mandate form after duly filled in to their Participants / Investor Account Services.

ایسے شیر ہولڈرز جو مندرجہ ذیل صورت میں شیر کے حامل ہوں ان سے درخواست ہے کہ اپنا مطلوب ڈیویڈنڈ میٹریٹ فنانس ہاؤس پر کر کے متعلقہ شیر رجسٹرار کو جمع کرائیں۔ وہ شیر ہولڈرز جو سیٹیل ٹیلی فون پر کسی آف پاکستان لینڈ میں شیر رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مطلوب منافع مقدمہ کا لینڈ فنانس ہاؤس بھرنے کے بعد اپنے پارٹنیشن / انویسٹر اکاؤنٹ سرورسز کو جمع کرا دیں۔